

جنسی طور پر ہر اس اس کیے جانے کو ہرگز برداشت نہ کیا جائے کارکنوں کے لئے ضابطہ اخلاق

اس ضابطہ اخلاق کو اپنایا کر آپ کا ادارہ ”عورتوں کو کام کی جگہوں پر ہر اس اس کیے جانے کے خلاف قانون 2010“، کی مکمل تعمیل کر سکے گا

دیباچہ

یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ ہمارے قانون میں جنسی طور پر ہر اس اس کیے جانے کی توضیح کی گئی ہے۔ اب تک جنسی طور پر ہر اس اس کیے جانے کو جرم، نہیں بلکہ ایک سماجی برائی کے طور پر دیکھا جاتا تھا اور اس پر عورتوں کو ہمی موردا الزام ٹھہرا کر جواز پیدا کر لیا جاتا تھا۔ کام کی جگہوں پر ہر اس اس کیے جانے کے خلاف کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ اس مسئلے پر گزشتہ دس برسوں کے دوران میں چلا کر قومی سطح پر توجہ دلائی گئی۔ آشا نے، جو جنسی طور پر ہر اس اس کیے جانے کے خلاف تنظیموں کا ایک اتحاد ہے، اس سلسلے میں شعور اجاگر کیا، قومی اتفاق رائے سے ایک پالیسی تیار کی اور اسے نجی شعبے کے اداروں میں نافذ کرایا۔ گذشتہ چند سالوں میں 300 سے زائد جن اداروں نے اسے اپنے ہاں لا گو کیا ہے ان میں سے زیادہ تر نے اسے جنسی طور پر ہر اس اس کیے جانے کے واقعات سے نمٹنے، کام کے ماحول کو ہتر بنانے، اور کارکنوں کو مطمئن اور مستعد بنانے کے سلسلے میں موثر پایا۔ وہ ترقی پسند آجر جنہوں نے پہلے اس ضابطہ اخلاق کو اپنایا اور آئندہ برسوں میں اسے نافذ کیا وہ ایسے رہنماؤں کی حیثیت رکھتے ہیں جنہوں نے اس طرح کی تبدیلی کے لئے راستہ ہموار کیا۔

آشا اور حکومت ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے، سینئر سیاسی رہنماؤں نے اس مجوزہ قانون سازی کو اپنے ذمے لے لیا اور دوسرا سال کے عرصے میں یہ قانون منظور کرایا۔ اب ”عورتوں کو کام کی جگہوں پر ہر اس اس کیے جانے کے خلاف قانون 2010“، کی منظوری کے بعد ہر ادارے کے لئے اس قانون میں تائے گئے ضابطہ اخلاق کو اپنانا ضروری ہے۔ یہ قانون مالکان، نیجرز، اور ساتھی ملازمین کو کام کی جگہوں پر دوسروں کو جنسی طور پر ہر اس اس کرنے سے منع کرتا ہے۔

یہ قانون تمام کارکنوں، مردوں اور عورتوں کے لئے ہے اور اداروں کے ماحول میں جنسی طور پر ہر اس اس کیے جانے کی برائی کے خاتمے کی ذمہ داری انتظامیہ پر ڈالتا ہے۔ لہذا ازور اس بات پر ہے کہ اداراتی نظام کا رکے ذریعے افراد اپنے رویے کے لئے ذمہ دار ٹھہریں۔ توقع کی جاتی ہے کہ جوں ہمارے معاشرے کا ذہن تبدیل ہو گا اور عورتوں کو موردا الزام ٹھہرانے کی بجائے نامناسب رویے کو جڑ سے

اکھاڑ پھینکنے پر توجہ دی جانے لگے گی، ادارے اس نظام کی تبدیلی میں فعال کردار ادا کرنے لگیں گے۔ انہیں اس بات پر شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہئے کہ ان کے ہاں جنسی طور پر ہر اس اس کئے جانے کے واقعہ رونما ہوا ہے اور نہ ہی انہیں پردہ پوشی کی کوشش نہیں کرنی چاہئے کہ ان کے ادارے میں یہ مسئلہ موجود نہیں ہے۔ اس کی بجائے انہیں فخر ہونا چاہئے کہ ان کے ہاں اس قسم کے واقعات سے نہیں کا نظام موجود ہے۔ یہ کسی ادارے میں پیشہ و رانہ خوبی کا پیمانہ ہونا چاہئے۔ اس قانون کا نفاذ اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنائے گا، اداروں کے کلچر کو تبدیل کرے گا اور کارکنوں کی اپنے کام سے مطمئن ہونے کی سطح کو بہت حد تک بلند کرے گا۔

اس ضابطہ اخلاق کو، جو اگلے صفحات میں پیش کیا جا رہا ہے، اپنا کر آپ کا ادارہ اس قانون کی مکمل تعمیل کر سکتا ہے۔ یہ اس قانون کے تمام تقاضوں کو آسان تر زبان میں اور قابل فہم ترتیب میں پیش کر رہا ہے تاکہ قارئین اسے با آسانی سمجھ سکیں۔ نفاذ کے عمل میں کسی بھی مدد کے لئے، آگئی کے لئے تحریری مواد کے حصول کے لئے، یا زیادہ پیچیدہ معاملات کو نہیں کے بارے میں افرادی وسائل کے ماہرین کو تربیت دلوانے کے لئے تمام ادارے آشا سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ضابطہ اخلاق کی نقل آشا کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

یہ تنظیم اس پالیسی کی تیاری اور قانون کی منظوری کے لئے کوشش رہی ہے اور اب اس کا عزم ہے کہ اس قانون کا عملی نفاذ ہو۔ اب یہ لازمی ہے کہ ہر ادارہ اس قانون کی پابندی کرے تاکہ ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ بن جائے جس میں مرد اور عورتیں دونوں اپنے لئے روزگار کما سکیں اور ہر اس اس یا خوفزدہ کیے جانے یا زیادتی کا نشانہ بننے کے خوف کے بغیر باعزت طور پر باہر نکل سکیں۔

ڈاکٹر فوزیہ سعید

نمائندہ آشا
www.AASHA.org.pk

فہرست عنوانات

پس منظر

تصریحات

ناقابل قبول رویہ

مجاز اتحاری کا تعین

شعور بہ ہانا اور تعلیم

انتظامیہ کی ذمہ داریاں بحوالہ مختصہ

عدم تعیل کی سزا

شکایت کا غیر رسمی طریق کار

باقاعدہ تحقیق کا طریق کار

تحقیقاتی کمیٹی کا کام

حقائق، سفارشات اور سزا ہیں

فیصلے کا اطلاق

اپیل

بد نیتی پرمنی از رامات

مختصہ کوشکایات

جوعروتیں قوم کی کارکن آبادی کا حصہ بننا چاہتی ہیں ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کام کی جگہوں پر جنسی طور پر ہر اسماں کیا جانا ہے۔ جو خواتین ملازمت اختیار کر لیتی ہیں انہیں اکثر ہر اسماں کیا جاتا ہے اور عموماً نامناسب طور پر اس کا الزام بھی انہیں پر لگایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ بے عزتی کا مسئلہ بن جاتا ہے اور عورت کے لئے یہ بہت دشوار ہوتا ہے کہ وہ اس کی اطلاع دے سکے یا کہ اس پر بات بھی کر سکے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ تر عورتوں کو یہ جنسی طور پر ہر اسماں کیا جاتا ہے۔ تاہم انصاف کی بات یہ ہے کہ جنسی طور پر ہر اسماں کرنے کے واقعات مردوں کے ساتھ بھی پیش آسکتے ہیں۔ اس لئے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ ہماری توجہ نامناسب رویے پر مرکوز ہو یہ ضابطہ اخلاق مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ہے۔ اس کی توجہ کا مرکزی نقطہ کام کی جگہوں پر جنسی طور پر ہر اسماں کیا جانا ہے اور یہ کام کرنے کی جگہوں کے ماحول کو اس طرح بہتر بنانے میں مددیتا ہے کہ یہ جنسی طور پر ہر اسماں کیے جانے، خوفزدہ کیے جانے اور زیادتیوں سے پاک ہو جائیں۔

2010 کے اوائل میں حکومت پاکستان نے قانون پاس کیا جس کا عنوان ہے ”کام کرنے کی جگہوں پر خواتین کو جنسی طور پر ہر اسماں کیے جانے کے خلاف قانون 2010“۔ اس قانون کا مقصد تمام اداروں کو خواہ وہ سرکاری ہیں، بھی ہیں یا سول سوسائٹی کے ادارے، یہ موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ خود اپنے لئے ایسے ضوابط کا رقمر کریں جن کے ذریعے وہ اپنے ہاں جنسی طور پر ہر اسماں کیے جانے کے مسائل سے نمٹ سکیں۔ اس ضابطہ اخلاق کو اپنानاسب اداروں کے لئے لازمی ہو چکا ہے۔ اس کے تحت اداروں کی انتظامیہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ ادارے کے کلچر کو تبدیل کر کے اسے مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے باعزت بنائے۔ یہ ضابطہ اخلاق حکومت کی شہریوں کو مساوی حیثیت دینے کی قومی پالیسیوں میں دیے گئے موضوعات اور شقوق سے مطابقت رکھتا ہے۔

اس لئے عورتوں اور مردوں کے لئے مساوی موضع کے اصول، استھصال اور ہر اسماں کئے جانے کے خوف و خطر سے بے نیاز ہو کر باوقار روزگار کمانے کے حق کو تعلیم کرتے ہوئے

پاکستان کے آئین کی شقوق کو مانتے ہوئے جس کے آڑپکل 26، 25 اور 27 سر یا کام کی جگہوں پر صنفی امتیاز کے خلاف ہیں

حکومت کی جانب سے میں الاقوامی معاهدوں کے اعتراض میں جن میں عالمی ادارہ محنت کے کنوشن 100 اور اقوام متحدة کا

عورتوں کے خلاف ہر قسم کے امتیازی سلوک کے خاتمے کا کنوشن شامل ہیں

موجودہ شقتوں کے علاوہ، اس ضابطہ اخلاق کا مقصد کارکن مردوں اور عورتوں کے لئے ایسا محفوظ اور باعزت ماحول قائم کرنا ہے جو جنسی طور پر ہر اسائیں کیے جانے، خوفزدہ کیے جانے یا استھصال سے پاک ہو اور مقام کا رپرہتر کارکردگی اور بہتر زندگی کا ماحول پیدا کرے۔

اب اس ملک کا قانون ہر ادارے پر یہ لازم قرار دیتا ہے کہ وہ اس ضابطہ اخلاق کو اس کے الفاظ اور اس کی روح کے ساتھ نافذ کرے، اس لئے یہ ضابطہ اخلاق ”عورتوں کو کام کرنے کی جگہوں پر ہر اسائیں کیے جانے کے خلاف قانون 2010“ پر عملدرآمد کے ایک حصے کے طور پر جاری کیا جا رہا ہے۔

یہ ضابطہ اخلاق انتظامیہ اور مالکان سمیت تمام کارکنوں کے رویے کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے تاکہ کام کرنے کی جگہوں پر جنسی طور پر ہر اسائیں کیے جانے سے پاک ماحول قائم کیا جاسکے۔

تصریحات

اس ضابطہ اخلاق میں استعمال ہونے والی مخصوص اصطلاحات کی توضیح درج ذیل ہے

- (الف) ”ملزم“ سے مراد کسی ادارے کا کوئی ملازم یا، آجر مراد ہے جس کے خلاف اس ایکٹ کے تحت شکایت دائر کی گئی ہو
- (ب) ”ایکٹ“ سے مراد ”عورتوں کو کام کرنے کی جگہوں پر جنسی طور پر ہر اسائیں کیے جانے کے خلاف قانون 2010“ ہے۔
- (ج) سی بی اے سے مراد صنعتی تعلقات ایکٹ 2008ء یا فی الوقت کسی دیگر قانون میں صراحةً کردہ کے مطابق اجتماعی سودا کاری ایجنسٹ ہے۔

(د) ”ضابطہ“ سے مراد اس مسودے میں دیا گیا ضابطہ اخلاق ہے

- (ر) ”حاکم مجاز“ سے کوئی اتحاری مراد ہے جس کو انتظامیہ کی طرف سے اس ایکٹ کی اغراض کے لیے مقرر کیا گیا ہو
- (س) ”شکایت کننہ“ سے مراد کوئی عورت یا مرد ہے جس نے ہر اسائیں کے فعل سے متاثر ہونے پر مختص یا تفتیشی کمیٹی کو شکایت دائر کی ہو؛

- (ش) ”ملازم“ سے کوئی باقاعدہ یا معاہدی ملازم مراد ہے خواہ وہ روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ یا گھنٹوں کی بنیاد پر ملازم ہو، اس میں کوئی انٹرن یا کوئی اپرنس بھی شامل ہے۔

- (ص) ”آجر“ ادارے سے متعلق کوئی شخص یا اشخاص کی جماعت مراد ہے خواہ وہ تشکیل یافتہ ہو یا نہ ہو، جو کسی آر گنائزیشن

- میں معاهدہ جاتی ملازمت کے تحت کارکنوں کو ملازم رکھے اور اس میں حسب ذیل شامل ہیں:
- (i) مذکورہ شخص یا منتذ کرہ بالاجماعت کا کوئی وارث، جانشین یا منتقل الیہ، جیسی بھی صورت ہو؛
 - (ii) کوئی شخص جو انتظامیہ کی کسی ہدایت، انتظام، انصرام، اور نگرانی کا ذمہ دار ہو،
 - (iii) اتحاری، کسی آرگناائزیشن یا آرگناائزیشن کے گروپ کی نسبت، جو وزارت یا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے مکملے کی طرف سے یا اس لہ اتحاری کے تحت چلائی جا رہی ہو، جس کا اس سلسلے میں تقرر کیا گیا ہو، یا جبکہ کسی اتحاری کا تقرر نہ کیا ہو تو، وزارت یا مکملے کا سربراہ، جیسی بھی صورت ہو، ہو سکتا ہے۔
 - (iv) کسی ادارے کی نسبت جسے مقامی اتحاری کی طرف سے یا اس کے ذریعے چلا یا جا رہا ہو کوئی عہدیدار جس کا اس سلسلے میں تقرر کیا گیا ہو، یا جبکہ کسی افسر کا بابیں طور تقرر نہ کیا گیا ہو تو مذکورہ اتحاری کا چیف ایگزیکٹو عہدے دار؛
 - (v) کسی دوسرے ادارے کی نسبت، مذکورہ ادارے کا پروپر اسٹر اور ہر ایک ڈائریکٹر، فیجیر، سیکرٹری، ایجنٹ، یا عہدے دار یا اس کے انتظامی امور سے متعلقہ شخص؛
 - (vi) ٹھیکے دار یا کسی ٹھیکے دار کا ادارہ جو خود یا اس کے ذریعے کسی فرد یا ملازمین کی خدمات کسی دوسرے شخص یا کسی دوسرے ادارے کے استعمال کے لیے مہیا کرنے اور کسی بھی شکل میں اور کسی بھی بنیاد پر ادا یتیک کرنے کا ذمہ دار ہو، اور
 - (vii) وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت یا مقامی اتحاری کے کسی مکملے یا ڈویژن کا کوئی عہدیدار جس کا تعلق انتظامی، معتمدی یا نگران کیڈر سے ہو یا سپرواائزروں یا ایجنٹوں کی کیڈر سے ہو اور وہ جنہیں اس غرض سے سرکاری گزٹ میں مشتہر کیا گیا ہو۔
- (ط) ”خوف و ہراس“ سے مراد کوئی ناپسندیدہ جنسی پیش قدمی، جنسی تعلق کی استدعا یا دیگر زبانی یا تحریری روابط یا جنسی نوعیت کا جسمانی طرز عمل یا جنسی تذلیل جو کام کی انجام دہی میں رکاوٹ کا سبب بنے یا خوف و ہراس یا جارحانہ یا مخالفانہ ماحول کا باعث بنے، یا مذکورہ مدعا پورانہ کرنے پر مستغیث کو سزاد ہینے کے لیے یہ شرط رکھے؛
- (ظ) ”انکواڑی کمیٹی“ سے دفعہ ۳ کی ذیلی دفعہ (۱) کے تحت قائم کی گئی کوئی انکواڑی کمیٹی مراد ہے؛
- (ع) ”انتظامیہ“ سے کوئی شخص یا اشخاص کی جماعت مراد ہے جو کسی آرگناائزیشن کے امور کا انتظام و انصرام کرنے کا ذمہ دار ہو اس میں آجر شامل ہے۔
- (ف) ”محتسب“ سے دفعہ ۷ کے تحت مقرر کردہ محتسب مراد ہے؛
- (ق) ”آرگناائزیشن“ سے وفاقی یا صوبائی حکومت کی کوئی وزارت ڈویژن یا مکملہ، یا وفاقی یا صوبائی حکومت یا اصلی حکومت یا رجسٹر ڈسول سوسائٹی کی ایسوئی ایشنوں کی طرف سے قائم کردہ یا ان کے زیر نگرانی کا رپورٹن، خود مختار یا نیم خود مختار ادارے، تعلیمی ادارے، طبعی سہولتیں یا بھی انتظام کے تحت چلنے والے تجارتی یا صنعتی ادارے یا ادارہ، کوئی کمپنی مراد ہے

جس کی تعریف کمپنیات آرڈیننس ۹۱ء (۲۷ مئی ۱۹۸۹ء) میں کی گئی ہے اور اس میں پرائیوٹ شعبے میں رجسٹرڈ کوئی دیگر تنظیم یا ادارہ شامل ہے۔

(ک) ”مقام کار“ سے کام کی جگہ یا وہ احاطہ مراد ہے جہاں کوئی آرگناائزیشن یا آجر اپنے امور انجام دیتا ہے اور اس میں عمارت، فیکٹری کھلی جگہ یا وسیع رقبہ شامل ہے جہاں آرگناائزیشن یا آجر کی سرگرمیاں اور کام انجام دیتے جاتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی جگہ شامل ہے جو دفتر سے باہر دفتری کام یا سرکاری سرگرمیوں کے لیے رابطہ کا کام کرتا ہو۔

ناقابل قبول رویہ

(2) جنسی طور پر ہر اسال کرنے کے رویے کی وضاحت شق (i) 1 میں کی گئی ہے:

کوئی بھی ناخوشنگوار جنسی تعلق، جنسی میلان کی استدعا کرنا یا کوئی زبانی یا تحریری مراسلت یا جنسی نوعیت کے عملی اقدام یا جنسی تذلیل جیسا راویہ مراد ہے جو کام کی انجام دہی میں مداخلت کا سبب بنے یا خوفناک، مخالفانہ یا جارحانہ ماحول پیدا کرے یا مذکورہ تقاضہ پورانہ کرنے پر مستغیث کو سزا دینے کی کوشش کرنا یا ملازمت کو اس فعل سے مشروط کرنا ہے؛

یہ مقامات کاریعنی کام کرنے کی جگہ پرناقابل قول رویہ ہے اور اس میں وہ رابطے بھی شامل ہیں جو دفتری کام یا سرگرمی کے سلسلے میں دفتر سے باہر کیے جائیں۔ یہ تمام چیزیں اس ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں۔ مزید تفصیل کے لئے ضمیمه 1 دیکھئے ہے۔

اداروں کی انتظامیہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ اس ضابطہ اخلاق کو اپنے مقام کار کی پالیسی کا حصہ بنائے جیسا کہ شق 1 (ایم) میں کہا گیا ہے۔

انتظامیہ کی ذمہ داریاں

(4) انتظامیہ اس ضابطہ اخلاق کو اس کے الفاظ اور روح کے مطابق نافذ کرنے کی ذمہ دار ہوگی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کے جنسی طور پر ہر اسال کیے جانے کی ہر شکایت پر ذمہ دارانہ طریقے سے کارروائی ہو سکے۔ انتظامیہ اس عمل کے دوران غیر جانبدار ہوگی اور کسی جوابی کارروائی کے بغیر منصفانہ تحقیقات کرائے گی۔ انتظامیہ اس معاملے میں شکایت کنندہ اور گواہوں کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کرے گی۔

تحقیقاتی کمیٹی کا قیام

(5) ادارہ اس ضابطہ اخلاق کے تحت ایک مستقل تحقیقاتی کمیٹی قائم کرے گا۔ کمیٹی تین اراکین پر مشتمل ہو گی جن میں سے کم از کم ایک رکن عورت ہو گی۔ ایک رکن سینئر انتظامیہ سے ہو گا اور جہاں سی بی اے (CBA) موجود نہ ہو تو ملازمین کا سینئر نمائندہ یا کوئی سینئر ملازم ہو گا۔ ایک یا زائد اراکین کو ادارے کے باہر سے شریک رکن کے طور پر شامل کیا جائے گا بشرطیکہ آر گناہ نزیش متذکرہ بالاطور پر بیان کردہ تین ارکان کو نامزد کرنے کے قابل نہ ہو۔ چیئرمین ان میں سے نامزد کیا جائے گا۔

(6) اگر شکایت تغییری کمیٹی کے کسی رکن کے خلاف دائر کی جائے تو اس مخصوص معاملے کے لیے اس رکن کی بجائے کسی دوسرے رکن کو مقرر کر دیا جائے گا۔ مذکورہ رکن آر گناہ نزیش میں سے یا باہر سے ہو سکتا ہے۔

مجاز اتحاری کا تعین

(7) انتظامیہ کو چاہئے کہ اس ضابطہ اخلاق پر عملدرآمد کے لئے مجاز اتحاری کا تعین کرے جیسا کہ قانون میں تجویز کیا گیا ہے۔

اس مسئلے کے بارے میں کارکنوں میں آگھی پیدا کرنا اور ان کی تعلیم

(8) انتظامیہ اس ضابطہ اخلاق کی کاپیاں انگریزی میں اور ان زبانوں میں جو زیادہ ملازم میں سمجھ سکتے ہیں ادارے میں اور مقامات کا پر اس قانون کے نافذ اعمال ہونے کے ایک ماہ کے اندر اندر نمایاں طور پر آویزاں کرے گی۔

(9) انتظامیہ اس ضابطہ اخلاق اور مقامات کا پر جنسی طور پر ہر اسماں کرنے کے نتائج کے بارے میں اپنے ملازم میں آگھی پیدا کرنے کے لئے اجلاس منعقد کرے گی۔

انتظامیہ کی مختصہ کی جانب ذمہ داریاں

(10) حکومت جنسی طور پر ہر اسماں کیے جانے کے واقعات کی سماut کے لئے مختصہ کا دفتر قائم کرے گی۔ کوئی بھی کارکن مختصہ سے درخواست کر سکتا ہے اگر وہ یہ محسوس کرے کہ اس کے معاملے کی منصفانہ سماut اس کے ادارے کے اندر ممکن نہیں ہے۔ انتظامیہ کو مختصہ کی طرف کیے جانے والے تمام سوالات کا جواب دینا ہو گا۔ اگر کسی صورت میں کوئی کارکن براہ راست مختصہ کے پاس شکایت

دار کرتا ہے یا تحقیقاتی کمیٹی کی کارروائی سے نامطمئن ہو کر محتسب کے پاس اپیل دائر کرتا ہے تو انتظامیہ محتسب کے فیصلے کی پابند ہوگی۔

عدم تعمیل کی سزا

(11) کسی آجر کی طرف سے اس ضابطہ اخلاق پر عملدرآمد میں ناکامی کی صورت میں کوئی بھی کارکن ضلعی عدالت میں درخواست دائر کر سکتا ہے اور اگر آجر قصور و اثبات ہو جائے تو اسے جرمانہ کیا جا سکتا ہے جس کی رقم ایک لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے لیکن کسی بھی صورت میں جرمانے کی رقم چھپس ہزار روپے سے کم نہیں ہوگی۔

(12) اگر ادارہ تحقیقات کے سلسلے میں محتسب کی ہدایات پر عمل نہیں کرتا یا اس کے فیصلے کی پابندی نہیں کرتا تو انتظامیہ کو وہی سزادی جائے گی جو ہائی کورٹ کے معاملے میں توہین عدالت کے لئے مقرر ہے۔

شکایات کا غیر رسمی طریق کار

(13) ہر اسال کیے جانے کی شکایات کو نہایت کا ایک غیر رسمی طریقہ فریقین کو انتہائی پوشیدہ طریقے سے مشورے اور ہدایات دیتے ہوئے ان کے درمیان ثاثی ہے:

i) شکایت کنندہ یا اس کی طرف سے اس مقصد کے لئے مقرر کردہ کوئی شافمبر ہر اسال کیے جانے کے واقعہ کی اطلاع اس کے سپروائزر کو یا تحقیقاتی کمیٹی کے کسی رکن کو دے سکتا / سکتی ہے۔ اس صورت میں سپروائزر یا کمیٹی کارکن اس مسئلے کو اپنی صوابدید پر اس ضابطہ اخلاق کے مطابق نہایت / سکتی ہے۔ یہ درخواست زبانی یا تحریری طور پر دی جا سکتی ہے۔

ii) اگر معاملے کو غیر رسمی سطح پر تحقیق کے لئے اٹھایا جاتا ہے تو دفتر کا کوئی سینسٹر افسر یا ہیڈ آفس کا کوئی افسر خفیہ طور پر تحقیق کرے گا۔ ملزم شخص سے اس معاملے کو پوشیدہ طریقے سے حل کرنے کے لئے رابطہ کیا جائے گا؛

iii) اگر مذکورہ واقعہ شدید طریقے سے جنسی طور پر ہر اسال کیے جانے کا ہے اور افسر یا کمیٹی کارکن جو اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس معاملے کو شکایت کنندہ کی رضامندی سے باقاعدہ ضابطے کی کارروائی کے لئے اٹھایا جانا چاہیے۔

تو اس معاملے کو ایک با قاعدہ شکایت کے طور پر اٹھایا جا سکتا ہے:

v) کسی شکایت کنندہ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی شکایت لازماً غیر رسمی طریقوں سے لے جائے۔ وہ باضابطہ شکایت کسی بھی وقت دائر کر سکتا / سکتی ہے۔

vii) شکایت کنندہ معاملے کی نوعیت کے مطابق اپنے سپروائزر، ہی بی اے کے نمائندے، یا کارکنوں کے نمائندے کے ذریعے با قاعدہ یا براہ راست تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے شکایت دائر کر سکتا / سکتی ہے۔ جس کمیٹی ممبر سے رابطہ کیا جائے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ تحقیقاتی کارروائی کا آغاز کرے۔ سپروائزر اس عمل میں مدد فراہم کرے گا اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق میں کسی قسم کی پردہ داری نہ کرے اور رکاوٹ نہ ڈالے۔

vi) تحقیق کے عمل میں ادارے کے کسی بھی رکن سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور اس سے اس معاملے میں مدد کے لئے کہا جا سکتا ہے۔

viii) آجر کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے کہ عارضی انتظامات کرے جس سے شکایت کنندہ اور ملزم کو تحقیقات کے عرصے کے دوران دفتری کاموں کے لئے ایک دوسرے سے رابطے نہ کرنے پڑیں۔ اس میں عارضی طور پر دفتروں میں تبادلہ یا کسی ایک فریق کے پاس موجود کسی ایسے اضافی چارج کو واپس لینا شامل ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے فریق کے کام پر حد سے زیادہ اختیارات کا مالک ہو۔ آجر یہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے کہ ملزم کو چھٹی پر بھیج دیا جائے یا مس کنڈٹ کے معاملے کے بارے میں طے شدہ طریق کارکے مطابق اگر ضرورت ہو تو معطل کر دیا جائے۔

ix) دونوں میں سے کسی بھی فریق کے خلاف جوابی کارروائی پر سختی سے نظر کھی جانی چاہئے۔ تحقیقاتی عمل کے دوران کارکردگی کے جائزے، ذمہ دار یوں کی تفویض، روپرٹنگ کے طریق کار اور کسی قسم کی متوازی تحقیقات پر گہری نظر کھی جائے تاکہ کسی بھی فریق کی جانب سے جوابی زیادتی نہ کی جاسکے۔

x) ہر اس ایجمنٹ کے واقعات عموماً ساتھی کارکنوں کے درمیان اس وقت ہوتے ہیں جب وہ اکیلے ہوں اس لئے شواہد پیش کرنا عموماً مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ ٹاف کسی بھی جارحانہ رویے کی اطلاع فوری پر کسی

ایسے فرد کو دیں جس پر وہ بھروسہ کرتے ہوں خواہ وہ با قاعدہ شکایت دائرہ بھی کرنا چاہتے ہوں۔ اگرچہ واقعہ کی فوری اطلاع نہ دینا معاملے کی حیثیت پر اثر انداز نہیں ہونا چاہئے۔

تحقیقات کا با قاعدہ طریق کار

تحقیقاتی کمیٹی کی کارکردگی
(14) تحقیقاتی کمیٹی جوشق (5) کے تحت قائم کی گئی ہے اپنے درمیان ایک چیئر پرنس کا انتخاب کرے گی اور اجلاس کا وقت اور مقام کا تعین کرے گی۔

(15) تحقیقاتی کمیٹی تحریری شکایت موصول ہونے پر

(الف) تین روز کے اندر ملزم کو ان الزامات اور فردم جرم سے تحریری آگاہ کرے گی جو اس کے خلاف عائد گئے گئے ہوں؛
(ب) ملزم کو کہا جائے گا کہ وہ الزامات کی اطلاع ملنے کے دن سے سات ایام کے اندر تحریری دفاع پیش کرے اور بغیر کسی معقول وجہ کے وہ ایسا نہیں کرتا تو کمیٹی یک طرفہ کارروائی کرے گی؛ اور
(ج) الزامات کی تحقیق کرے گی اور الزام کی حمایت میں یا ملزم کے دفاع میں ایسی زبانی یا دستاویزی یا کسی دوسری شہادت کا جائزہ لے سکے گی جیسا کہ کمیٹی ضروری سمجھے اور ہر ایک

(16) تحقیقاتی کمیٹی کو یہ اختیار ہو گا کہ وہ:

(الف) کسی شخص کو طلب کرے اور حاضر ہونے کا پابند کرے اور حلف نامہ پر اس کی جانب پڑتاں کرے؛
(ب) کوئی دستاویز ظاہر کرنے اور پیش کرنے کے لئے کہے؛
(ج) حلف ناموں پر شہادت وصول کرے؛ اور
(د) شہادت قلمبند کرے۔
(ر) اگر ضروری ہو تو شکایت کنندہ یا ملزم کو مجاز ڈاکٹر سے طبعی معائنة کرانے کا کہے

- (17) تحقیقاتی کمیٹی کو یہ اختیار ہو گا کہ وہ ہر اس ایس کیے جانے کے واقعے کی اس ضابطہ اخلاق کے تحت تحقیق کرے اور ملزم کے لئے سزا تجویز کرے۔ کمیٹی کو تحقیق کے سلسلے میں درج ذیل ضوابط کی پابندی کرنی ہو گی (مزید تفصیلی ہدایات ضمیمه ۱۱ میں دی گئی ہیں)
- (الف) تحقیقاتی عمل کے دوران حاصل شدہ بیانات اور دیگر شواہد خفیہ تصور کئے جائیں گے؛
- (ب) اگر ضرورت ہو تو تحقیقاتی کمیٹی پوری کی پوری کارروائی کو خفیہ قرار دے سکتی ہے۔
- (ج) اگر ضروری سمجھا گیا تو تنظیم کے کسی افسر کو فریقین کو مشورے اور معاونت فراہم کرنے کے لیے نامزد کیا جاسکتا ہے۔
- (د) دونوں فریقین، شکایت کنندہ اور ملزم کو حق حاصل ہو گا کہ وہ اجتماعی سودے کا رنمائنڈ، دوست یا ایک ہم مرتبہ کو نمائندہ بنائیں یا اپنے ساتھ لائیں۔
- (ر) شکایت کنندہ یا گواہوں کے خلاف مخالفانہ کارروائی نہیں کی جائے گی۔
- (س) انکوائری کمیٹی یقینی بنائے گی کہ آجر یا ملزم کسی بھی صورت میں شکایت کنندہ کے لیے کوئی ایسا مخالفانہ ماحول پیدا نہیں کرے گا جس کا مقصد شکایت کنندہ کو اپنی شکایت کو آزاد نہ طور پر آگے بڑھانے سے روکنے کے لیے دباؤ ڈالنا ہو، اور
- (ش) انکوائری کمیٹی تحریری طور پر اپنی تحقیقات کے نتائج پیش کرتے ہوئے اس کی وجوہات تحریر کرے گی۔

تحقیقات کے نتائج، سفارشات اور سزا میں

- (18) تحقیقاتی کمیٹی تحقیقات کے انعقاد کے تینیں دونوں کے اندر اپنے اخذ کردہ نتائج اور سفارشات حاکم مجاز کو پیش کرے گی۔ اگر انکوائری کمیٹی ملزم کو قصور وار پاتی ہے تو وہ مجاز اتحار ٹوڈیل میں دی گئی کوئی ایک یا زائد سزا میں دینے کی سفارش کرے گی۔

(i) معمولی سزا میں

(الف) ملامت کرنا

(ب) ایک مقررہ مدت کے لیے اس کی محکمانہ ترقی اور تنخواہ میں اضافہ کرو کرنا؛

(ج) ایک مخصوص مدت تک ٹائم سکیل میں اہلیتی حد کرو کرنا،

(د) شکایت کنندہ کو قبل ادا معاوضہ ملزم کی تنخواہ یا کسی دوسرے ذرائع سے وصول کرنا

(ii) بڑی سزا میں

(الف) عہدے یا ٹائم سکیل میں تخفیف یا ٹائم سکیل کے نچلے درجے میں لانا؛

(ب) جبری ریٹائرمنٹ

(ج) ملازمت سے بر طرفی

(د) ملازمت سے موقوفی

(ر) جرمانہ۔ جرمانے کا ایک حصہ شکایت کنندہ کے لئے بطور معاوضہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ماں ہونے کی صورت میں جرمانہ شکایت کنندہ کو ادا کیا جائے گا۔

فیصلے پر عملدرآمد

(19) مجاز اتحاری تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے سفارش کردہ سزاوں پر عملدرآمد مذکوری دفعہ (18) کے تحت سفارشات کی موصولی کے ایک ہفتہ کے اندر اندر عائد کرے گی۔

(20) تحقیقاتی کمیٹی باقاعدگی سے اجلاس کرے گی اور اس وقت تک حالات کا باقاعدگی سے جائزہ لے گی جب تک کہ وہ مطمئن نہ ہو جائے کہ ان کی سفارشات پر اپلیٹ اتحاری اور حاکم مجاز کے فیصلہ کے تابع عمل کیا گیا ہے۔

(21) شکایت کنندہ کو صدمے کی صورت میں ادارہ نفیضیاتی و سماجی مشاورت دینے یا طبی علاج کرانے اور اضافی رخصت دینے کے لیے انتظام کرے گی۔

(22) ادارہ تنخواہ سے محرومی یادو مرے نقصانات کی صورت میں شکایت کنندہ کو تلافی کی بھی پیش کش کر سکتی ہے۔

(23) مجاز اتحاری کے فیصلہ سے متاثر ہوئی فریق جس پر معمولی یا بڑا جرمانہ عائد کیا گیا ہو فیصلہ کی تحریری اطلاع ملنے کے تینیں یوم کے اندر وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی طرف سے اس مقصد کے لئے مقرر کیے گئے مختصب کو اپل دائز کر سکے گا۔

(24) اپلیٹ اتحاری، اپل اور دوسرے متعلقہ امور پر غور کرتے ہوئے تینیں یوم کے اندر اس فیصلے کی توثیق، اسے منسون، تبدیل یا ترمیم کر سکے گی جس کے بارے میں اپل دائز کی گئی ہو۔ اتحاری فیصلہ کی اطلاع دونوں فریقین اور مالک کو دے گی۔

(25) مختصب کے تقریک ضلعی عدالت کو مجاز اتحاری کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔

بد نیتی پڑنی ازامات

(26) تحقیقاتی کمیٹی مختصب کو شکایت کنندہ کے خلاف مناسب کارروائی کی سفارش کر سکتی ہے اگر ملزم کے خلاف ازامات غلط اور بد نیت پڑنی ثابت ہو جاتے ہیں۔

مختصب کو شکایات

(27) کسی بھی ملازم کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ شکایت مختصب کے پاس دائز کرے یا تحقیقاتی کمیٹی میں دائز کرے۔ مختصب کے پاس شکایت درج کرانے کی صورت میں انتظا میہ (ذیلی دفعہ 10 کے تحت) اس معاملے سے متعلق مختصب کی طرف سے طلب کی جانے والی کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ انتظامیہ پر لازم ہوگا کہ وہ مختصب کے فیصلے کو تعلیم کرے۔ مختصب کے اختیارات اور ضوابط کا وہ پابند ہو گا جانے کے لئے ضمیمہ ||| دیکھئے۔

ضمیمه ۱

جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی تفصیلی تشریح (ضابطہ اخلاق کی ذیلی دفعہ ۲ کے حوالے سے)

(۱) جنسی طور پر ہراساں کیے جانے میں درج چیزیں شامل ہو سکتی ہیں اگرچہ یہ محض انہی تک محدود نہیں ہے: زبانی طور پر ہراساں کرنا یا زیادتی کرنا؛ جنسی حرکات کے لئے اشارہ دباؤ؛ جنسی واقعات بیان کرنے کے بہانے جنسی دست درازی کرنا؛ ہاتھ لگانا، چھکی دینا یا چٹکی کاٹنا؛ کسی کے جسم کو شہوانی نظر سے دیکھنا؛ جنسی عنایات کا مطالبہ کرنا جس کے ساتھ اشارہ یا واضح طور پر ملازمت یا ترقی کے بارے میں دھمکیاں بھی دی جائیں اور جسمانی حملہ بشمول عصمت دری۔

مقامات کا ریعنی کام کرنے کی جگہ پر جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے تین نمایاں طریقے دیکھنے میں آتے ہیں

(الف) اختیارات کا ناجائز استعمال

کسی بھی صاحب اختیار شخص، مثلاً سپر والر، کی طرف سے شکایت کندہ کو ملازمت میں رکھنے یا اجرت میں اضافہ، عہدے کی ترقی، تربیت کے موقع، تبادلہ یا ملازمت جیسے بعض فوائد یعنی کے عوض جنسی تعلق پیدا کرنے کا تقاضہ کرنا؛

(ب) مخالفانہ ماحول پیدا کرنا

کوئی بھی ناخوشگوار جنسی پیش قدمی، جنسی تعلق کی استدعا یا جنسی نوعیت کا کوئی زبانی یا عملی طرز عمل جو کسی فرد کی کارکردگی پر اثر انداز ہو یا کام کے ماحول میں خوف و هراس، بیہودگی یا جارحیت پیدا کرتا ہو۔

ناموفق ماحول کے دعوے کی تحقیقات کے لئے مسلسل جارحانہ طرز عمل کا پتہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے تاہم ہراساں کیے جانے کے شدید نوعیت کے واقعات میں جن میں جسمانی دست درازی شامل ہو وہاں جارحیت کا ایک واقعہ ہی خلاف ورزی کے تعین کے لئے کافی ہو گا۔

(ج) انتقام

جنسی تعلق کی اجازت سے انکار کے نتیجے میں انتقام لیا جاسکتا ہے، جس میں مستقبل میں ملازم کی ترقی یا تربیت کے موقع کو محدود کرنا، کارکردگی کی جائزہ رپورٹیں خراب کرنا، ملازم کے خلاف بیہودہ گفتگو کرنا یا اس کے حقوق کو محدود کرنے کے دیگر ذرائع شامل ہیں۔ اس

طرح کارویہ بھی خوف وہ اس کا ایک حصہ ہے۔

(2) نوش مسود، مطبوعہ یا الیکٹرانک شکل میں، بھیجنا یا جنسی نوعیت کے تحریری پیغامات بھیجننا بھی جنسی طور پر ہر اس اس کرنے کے ذمہ میں آئے گا۔

(3) ایسی بات، جو ایک صنف پر دوسری صنف کی برتری کا اشارہ دیتی ہو، سے گریز کرنا چاہئے۔ اس میں ایسے لطفی شامل ہو سکتے ہیں جو ایک صنف کی تذلیل کرتے ہوں، یا کسی شخص کے جسم کے بارے میں نامناسب بات جس سے نفسیاتی طور پر ہر انسانی پیدا ہوتی ہے اور ایسا ماحول بنتا ہے جس میں عدم مساوات حاوی ہوتی ہے۔ اس قسم کے واقعات اگر تسلسل سے ہوں تو یہ جنسی طور پر ہر اس اس کیے جانے کے ذمہ میں آتے ہیں۔

ضمیمه ॥

(ضابطہ اخلاق کی ذیلی دفعہ 17 کے حوالے سے)

تحقیقاتی عمل کے بارے میں کارآمد رہنماءہدایات

(1) تحقیقاتی کمیٹی کے ارکان کو چاہئے کہ وہ تحقیقاتی عمل کے ماحول کو سازگار اور خوف سے پاک بنائیں۔ کمیٹی کے ارکان کو اپنے رویے یا اپنے سوالات میں کسی قسم کی جانبداری ظاہر نہیں کرنی چاہئے۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ عموماً معاشرہ عورت کو ہی جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے لئے مورد الزام قرار دیتا ہے اور عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ جنسی طور پر ہر اس اس کیے جانے کا واقعہ ان عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بدکردار ہوتی ہیں یا انہوں نے کسی معصوم مرد کو یہا کرنے پر اکسایا ہوتا ہے۔ کمیٹی کے ارکان کو چاہئے کہ وہ اس قسم کے تعصبات سے بچیں اور غیر جانبدار رہیں۔

(2) اختیارات کے ناجائز استعمال کے واقعات پیچیدہ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں ملزم اور شکایت کنندہ کے اختیارات میں عدم توازن ہوتا ہے اور اس کے لئے سخت انصباطی اقدامات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایسے واقعات کو اکارکن کے ملازمت پر رکھے جانے اور برطرف کیے جانے، ترقی ملنے، ذمہ داریوں کی تفویض، تعیناتی، چھٹی، اور ملازمت پر اثر انداز ہونے والے دوسرے پہلوؤں سے فسک کیا جاسکتا ہے۔ کمیٹی کے اراکین کو اس صورت حال سے باخبر ہونا چاہئے کہ نشانہ بنے والے کے لئے عمل کا اظہار آسان نہیں ہوگا اگر جارحانہ رویہ خوف یا سینئر شخص کے جو نیز کارکن پر اختیار کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے ممکن ہے کہ سخت سوالات مثلاً تشدیک انشانہ بننے والی/ والے نے ایسا کیوں ہونے دیا یا چیخ کیوں نہ ماری وغیرہ مناسب نہ ہوں۔

(3) ایسے واقعات جو کام کے ماحول کو نا موقوف بنا دیتے ہیں مسلسل جارحانہ رویے بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی ایک ہر اس اس کے جانے کا واقعہ بھی۔

(4) ضمیمہ ایں ہر اس اس کے جانے کی اقسام بیان کی گئی ہیں لیکن یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے اتنی مختلف نہیں ہوتیں اور ایک ہی وقت میں بھی پیش آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنسی طور پر ہر اس اس کے جانے کے واقعات مردوں اور عورتوں دونوں کے ساتھ ملازمت کے کسی بھی درجے پر اور کسی بھی قسم کے اختیارات کی برابری اور نابرابری کے حالات میں پیش آ سکتے ہیں۔

(5) ہر اس اس کے جانے کے واقعات اوقات کا رکھ علاوہ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ اس کا انحصار اس رسائی پر ہے جو ہر اس اس کرنے والے کو ہر اس اس کا شکار بننے والے تک حاصل ہے اور جس قسم کا تعلق یا حالات ان کے درمیان موجود ہیں۔

(6) جنسی طور پر ہر اس اس کے جانے کے واقعے میں ضروری ہے کہ طرزِ عمل ”ناپسندیدہ“ ہو۔ کسی واقعے کی تفتیش میں یہ بات مدنظر رکھی جائے کہ کیا ایک فرد نے دوسرے پر یہ واضح کیا کہ اس کی پیش قدمیاں ناپسندیدہ تھیں۔ یہ ممکن ہے کہ ہر اس اس ہونے والے فرد نے پہلے ہر اس اس کرنے والے کے رویے کو قابل اجازت سمجھا اور بعد میں ذاتی وجوہات کی بنا پر یا ذاتی پسند ناپسند کی بنا پر یا دوسرے فرد کے حد سے بڑھتے چلے جانے پر اس نے اس کو روکنے کا سوچا۔ ان حالات میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ ابتداء میں دی جانے والی چھوٹ کو پوری زندگی کے لئے اجازت نامہ نہیں سمجھ لیا جانا چاہئے۔ یاد و ستانہ تعلق میں کسی پیش قدمی کی اجازت کو جسمانی تعلقات کی کھلی اجازت نہیں سمجھ لینا چاہئے۔ جب بھی کبھی کوئی فرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذاتی حدود کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور طے کرتا ہے کہ اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں دے گا/گی تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ بات دوسرے پر واضح کرے اور اگر وہ شخص اس رویے سے باز نہیں آتا تو اسے جنسی طور پر ہر اس اس کرنا تصور کیا جانا چاہئے۔

(7) سپروائزر ز اور ساتھی کارکنوں سے اس قسم کے ہر اس اس کے جانے کے مبنیہ واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کی جانی چاہیں۔ اگر گواہ نہ مل سکیں تو ان لوگوں سے معلومات لینی چاہیں جنہوں نے الزام لگانے والے فریق کے رویے میں مبنیہ واقعے کے بعد تبدیلی محسوس کی۔ دوسرے لوگ جن سے الزام لگانے والے فریق نے اس واقعے پر بات کی ان سے اٹھرو یو کیا جانا چاہئے۔

(8) یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ جنسی طور پر ہر اس اس کے جانے کے واقعات ساتھی کارکنوں کے درمیان اس وقت پیش آتے ہیں جب وہ

اکیلے ہوتے ہیں اس لئے عموماً شواہد جمع کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے اس بات کی پر زور حمایت کی جاتی ہے کہ ہر انسانی کاشکار ہونے والے واقعے کی اطلاع فوراً کسی ایسے فرد کو دیں جس پر وہ اعتماد کرتے ہیں خواہ وہ اس وقت اس واقعے کے بارے میں فوری طور پر باقاعدہ شکایت دائرہ بھی کرنا چاہتے ہوں۔ اگرچہ فوری طور پر اطلاع نہ دینے سے بھی اس واقعے کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔

الف) شکایت کنندہ اور ملزم کا تفصیلی بیان شہادت کا اہم حصہ ہوتے ہیں

ب) گواہوں کے بیانات

ج) ان افراد کے بیانات جن سے ہر اس ایسے جانے والے فرد نے واقعے کا ذکر کیا ہو، ایسے افراد کا بیان جن سے غیر رسمی انداز میں مشورہ مانگا گیا ہو؛ اسے شہادت تصور کیا جانا چاہئے۔

د) کوئی اور دستاویزی، آڈیو یا ویڈیو یا کارڈ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شواہد کے بارے میں تکنیکی ماہرین کی مدد لی جا سکتی ہے۔

(9) شکایت کنندہ کو چاہئے کہ ملزم کو اس کے جنسی طور پر ہر اس ایسے جانے کے رویے کے بارے میں بتائے۔ بہتر یہ ہو گا کہ تمام واقعات کی تاریخ، مقام اور افعال کی تفصیل، ملزم کو اطلاع اور ان لوگوں کے نام جن کے سامنے اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہو، ان تمام چیزوں کا ریکارڈ تحریری طور پر رکھا جائے۔

(10) بعض واقعات میں جنسی طور پر ہر اس ایسے جانے کا تعین صرف شکایت کنندہ کے باعتبار ہونے پر ہو گا اگر اس کا بیان کافی حد تک تفصیلی ہے اور اس میں تسلسل پایا جاتا ہے۔

(11) قابل یقین شواہد کی کمی جہاں ایسے شواہد کا ہونا ضروری ہے الزامات کو کمزور کر دے گی۔ اس طرح کسی ملزم کی طرف سے مکمل انکار زیادہ معتبر نہیں ہو گا اگر دوسرے شواہد اس کی نفی کرتے ہیں۔

(12) جب ہر اس ایسے جانے کے مسلسل واقعات پر بات ہو رہی ہو تو تفتیش کرنے والوں کو انہیں الگ الگ واقعات کے طور پر نہیں لینا چاہئے بلکہ مسلسل طرز عمل کو دیکھنا چاہئے۔ ایسے واقعات کا مجموعی اثر ہر اس ایسے جانے والے کے لئے دفتر کے ماحول کو نام موافق بنادیتا ہے۔

(13) کوئی بھی فرد جو اس قسم کے واقعے میں کسی دوسرے فرد کو مدد دیتا ہے یا اس کی پرده پوشی کرتا، جس کے بغیر یہ واقعہ نہیں ہو سکتا تھا اس کے

خلاف بھی اس ضابطہ اخلاق کے تحت کارروائی ہونی چاہئے۔

(14) جنسی طور پر ہر اس ایسے جانے کے واقعے کی تحقیقات کرتے ہوئے، اگر تحقیق میں مالک یا منجھر کے کسی قریبی رشتہ دار یا متعلقہ فرد کا ہر اسانی کے عمل میں ملوث ہونا سامنے آتا ہے تو کمیٹی ان لوگوں کے خلاف انتظامیہ کے خرچ پر قانونی کارروائی شروع کرنے کی تجویز دے سکتی ہے۔

(15) اگر تحقیقات کے دوران دوسرے معاملات سامنے آتے ہیں اور اگر ان کا کوئی تعلق نہ تھا تو ان کا ذکر بھی انکواڑی رپورٹ میں کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ ان واقعات کو الگ حکام کے سامنے رپورٹ کیا جانا چاہئے۔

(16) اگر شکایت کنندہ صدمے کی حالت میں ہے تو ادارہ اس کے لئے کونسلنگ اور اضافی چھٹیوں کے انتظامات کرے گا۔ یہ تجویز فصلہ کا حصہ بنائی جاسکتی ہے۔

(17) ادارہ شکایت کنندہ کو ہر اس ایسے جانے کے نتیجے میں پہنچنے والے تنخواہ کے نقصان یا کسی دوسرے نقصان کے بدالے معاوضہ دے سکتا ہے۔ شکایت کنندہ کو تلافی کی رقم بھی دی جاسکتی ہے اگر آجر شکایت کنندہ کو جنسی طور پر ہر اس ایسے جانے سے بچانے میں ناکام رہا۔

ضمیمه ۱۱۱ محتسب کا دفتر

(ضابطہ اخلاق کے پیرا 27 میں درج ہے)

یہ تسلیم کیا جانا چاہئے کہ ضروری نہیں کہ ہر ادارے میں ایسا مضبوط نظام موجود ہو جو جنسی طور پر ہر اس ایسے جانے کے خلاف تجویز کیا گیا ہے۔ بعض اوقات زیادتی کرنے والا بہت سینئر فرد ہوتا ہے یا ادارے کا مالک ہوتا ہے۔ ان حالات میں تحقیقاتی کمیٹی کے لئے شائد یہ ممکن نہ ہو وہ اس شخص سے جواب دہی کرے۔ اسی طرح اگر کمیٹی قبل اعتماد افراد پر مشتمل نہیں ہے اور ملازمین کو اس پر اعتماد نہیں ہے تو قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ایسا فرد براہ راست محتسب سے رابطہ کرے۔

محتسب کا دفتر جنسی طور پر ہر اس ایسے جانے کے معاملات کی سماught کے لئے وفاق میں اور اس کے بعد اور صوبوں میں قائم کیا جائے گا۔

اس ادارے کے سربراہ کے لئے الہیت کا معیار وہی ہوگا جو ہائی کورٹ کے نج کے لئے ہے۔

محتسب کی ذمہ داریاں

محتسب کا ادارہ درج ذیل معاملات ننمائے گا:

- ایسے لوگوں کی اپلیکیشن جو تحقیقاتی کمیٹی کے فصلے سے نامطمین ہوں
- باقاعدہ اداروں میں کام کرنے کی جگہوں پر جنسی طور پر ہر اس اس کیے جانے کے واقعات کی برآہ راست شکایات
- کسی ادارے کی انتظامیہ کی طرف سے شکایات اگر انتظامیہ سمجھتی ہے کہ کوئی شکایت بدنیتی کی بنیاد پر کسی کو بدنام کرنے کے لئے دائر کی گئی ہے

محتسب کے اختیارات

”خواتین کو کام کرنے کی جگہوں پر جنسی طور پر ہر اس اس کیے جانے کے خلاف قانون 2010 کے حوالے سے محتسب کو وہی اختیارات حاصل ہوں گے جو کسی دیوانی عدالت کو قانون دیوانی عدالت 1908 کے تحت درج ذیل معاملات میں حاصل ہیں:

- i) کسی فرد کو طلب کرنا اور اس کی حاضری کو لازمی بانا اور اس سے حلفیہ پوچھ گھوکرنا
- ii) شہادت پیش کرنے کو لازمی بانا
- iii) تحریری شہادتیں وصول کرنا
- iv) گواہوں سے جرح کے لئے کیمیشن بانا
- v) معائنے یا تحقیقات کے لئے کسی بھی احاطے میں داخل ہونا؛ کسی بھی ایسی جگہ داخل ہونا جہاں محتسب کے خیال میں واقعہ سے متعلق شواہد موجود ہو سکتے ہیں
- vi) توہین عدالت کے سلسلے میں محتسب کو وہی اختیارات حاصل ہیں جو ہائی کورٹ کو دیے گئے ہیں۔

محتسب کی تحقیقات کا طریق کار

- (1) مختصب شکایت وصول ہونے کے تین یوم کے اندر ملزم کو اٹھا روجہ کا تحریری طور پر نوٹس جاری کرے گا۔ ملزم تحریری طور پر مختصب کو پانچ یوم کے اندر تحریری صفائی پیش کرے گا اور اگر وہ بغیر کسی معقول وجہ کے ایسا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو مختصب یک طرفہ کارروائی کا آغاز کر سکے گا۔ دونوں فریقین مختصب کے سامنے خود پیش ہو سکتے ہیں؛
- (2) مختصب خواتین کو کام کرنے کی جگہوں پر ہر اسال کیے جانے کے خلاف قانون کے وضع کردہ تواعد کے مطابق معاملہ کی تحقیق کرے گا اور کارروائی عمل میں لائے گا جیسا کہ وہ بطور مختصب مناسب سمجھے؛
- (3) اس ایکٹ کے تحت تفتیش کے مقاصد کے لئے، مختصب متعلقہ ادارے کے کسی دفتر یا رکن سے کوئی اطلاع فراہم کرنے یا کوئی دستاویز پیش کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے جو کہ مختصب کی رائے میں تفتیش کی انجام دہی میں معاون یا اس سے متعلق ہوں۔

مختصب کا فیصلہ

- (1) شکایت پر فیصلہ صادر کرتے ہوئے مختصب کسی بھی قسم کی بڑی یا چھوٹی سزا میں سنا سکتا ہے جو ادارے کے اندر تحقیقاتی کمیٹی کی طرف سے مقرر کی گئی ہوں۔
- (2) مختصب اپنا فیصلہ قائم بند کرے گا اور دونوں فریقین اور مجاز اتحاری کو فیصلہ پر عملدرآمد کے لئے اس کی اطلاع دے گا۔ اگر فیصلے پر عملدرآمد نہیں کیا جاتا تو ادارے کی انتظامیہ کو ہائی کورٹ کی توہین عدالت کا ملزم قرار دیا جائے گا۔

اپیل کا طریقہ کار
 اگر کوئی معاملہ تحقیقاتی کمیٹی کی بجائے براہ راست مختصب کے سامنے لے جایا جاتا ہے اور ملزم یا شکایت کنندہ مختصب کے فیصلے پر نامطمین ہے تو وہ فیصلہ سناۓ جانے کے تین روز کے اندر اندر صدر یا گورنر کے سامنے درخواست پیش کر سکتا ہے جو اس معاملے پر اپنے احکامات جاری کر سکتا / سکتی ہے جیسا کہ وہ مناسب سمجھے۔

جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی شکایات پولیس کے ذریعے دائر کرنا

خواتین کو کام کرنے کی جگہوں پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کے خلاف قانون 2010ء خیال کے ساتھ منظور کیا گیا ہے کہ اداروں کے اندر اپنا خود کا ر نظام کسی ادارے میں کام کرنے والے مردوں اور عورتوں کو ثقافتی طور پر حساس پلیٹ فارم مہیا کرے گا جس کے ذریعے جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی شکایات دائر کی جاسکیں گی۔ ہر ادارے میں موجود ایک تحقیقاتی کمیٹی کی موجودگی میں کارکن اپنی شکایات آسانی سے آگے پہنچا سکیں گے اور انہیں حل کر سکیں گے۔ اس نظام میں ایک ادارے کے اندر ایک ضابطہ اخلاق اور ایک تین رکنی کمیٹی موجود ہے جو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے خلاف شکایات کو موثر طور پر نہیں سکے گی۔

تاہم کارکنوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ 29 جنوری 2010 کو حکومت نے تعزیرات پاکستان کے سیکشن 509 میں ایک ترمیم کی منظوری دی ہے جس کے تحت نہ صرف کام کرنے کی جگہوں پر بلکہ ہر جگہ پر جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ اس جرم کی سزا پانچ لاکھ روپے تک جرمانہ اور تین سال تک کی قید یا بے یک وقت دونوں ہو سکتی ہیں۔

اگر کسی کارکن کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو ادارے کی انتظامیہ اس بات کو ترجیح دے گی کہ واقعہ کی شکایت ادارے کے اندر ہی دائر کی جائے لیکن انتظامیہ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو اس بارے میں باخبر رکھے کہ ان کے پاس یہ راستہ بھی موجود ہے کہ وہ دفعہ 509 کے تحت پولیس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پولیس میں رپورٹ درج کر سکتے ہیں۔